



اسے اتار دو، کیوں کہ یہ تمہاری کمزوری میں اضافہ ہی کرے گا اگر اسے پہنڈے ہوئے تم مر گئے تو کبھی فلاح یاب نہیں ہوگے

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلہ پہن رکھا تھا آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے اسے مرض کی وجہ سے پہن رکھا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اسے اتار دو، کیوں کہ یہ تمہاری کمزوری میں اضافہ ہی کرے گا اگر اسے پہنڈے ہوئے تم مر گئے تو کبھی فلاح یاب نہیں ہوگے

[حسن] [اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے شرک کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو اس سے نجات دلانے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ایک طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پیتل کا ایک کڑا پہن رکھا تھا آپ ﷺ نے اس سے دریافت کیا کہ اسے کس بات نے اس کے پہنڈے پر آمادہ کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس نے اسے لٹے پہن رکھا ہے تاکہ وہ اسے درد سے محفوظ رکھے آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ فوراً اسے اتار پھینکے اور اسے بنایا کہ یہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے اور یہ اس بیماری کو اور زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے اسے پہنا گیا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر مرنے کے وقت تک اس نے اسے پہنڈے رکھا تو وہ آخرت کی فلاح سے بھی محروم ہو جائے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6362>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

